

آپ کے اسکولوں کے چانسلر کے بطور خدمات انجام دینا میرے لیے باعثِ خوشی ہے۔ میں والدین اور خاندانوں کے ساتھ ملنے کا اور اپنے بچوں اور اسکولوں کے لیے آپکی توقعات سننے کا مشتاق ہوں۔

میں اپنی زندگی اور کیریئر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے Tucson, Arizona میں پرورش پائی، ایک دھات شیٹ کا کام کرنے والے اور ہنیر ڈریسر کا بیٹا۔ میرے جدی والدین میکسیکو کے نقل وطن تھے اور میں نے کنٹرگارٹن تک انگریزی نہیں سیکھی تھی۔ حالانکہ میرے والدین کبھی کالج نہیں گئے، وہ جانتے تھے کہ میرے جڑواں بھائی اور میرے لیے پیش رفت کی راہوں میں تعلیم شامل ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک کالج کی ڈگری اور پرمقصد کام میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی مواقع چاہتے ہیں۔


میں نے اپنی پوری زندگی عوامی تعلیم کے لیے وقف کی ہے کیونکہ یہ بہترین تحفہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ میں نے تقریباً 30 سال قبل تعلیم دینے کا آغاز اسپہی پبلک ہائی اسکول سے کیا تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے بطور دولسانی معاشرتی علوم اور موسیقی کے استاد کے آغاز کیا تھا، اور اسکے بعد Tucson میں ہائی اسکول پرنسپل بنا تھا۔ اسکے بعد میں Las Vegas میں علاقائی مہتمم بنا، اور San Francisco میں مہتمم اور حال ہی میں Houston میں۔

بطور چانسلر کے، میں ہمارے طلبا، معلمین، اسکولوں اور خاندانوں کے ذریعے پہلے سے کیے جانے والے مستحکم کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور پر میٹر کے سب کے لیے مساوات اور عمدگی (E&E) لائحہ عمل پر توجہ کا حامل ہوں۔ E&E وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم ہر چار سالہ بچے کو ایک مفت، کُل دن، اعلیٰ معیار کی پری کنٹرگارٹن فار آل نشست فراہم کر رہے ہیں، اور 3-K فار آل کو توسیع دے رہے ہیں تاکہ یہ نشو و نما کی اس سطح پر ہر بچے تک پہنچ سکے۔ ہمارے عالمی خواندگی آغاز کار کے ذریعے، ہم تمام طلبا کو اپنی گریڈ سطح پر مطالعہ کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ ہمارے طلبا کے ابتدائی سالوں سے بالا تر، ہم کالج ایکسس فار آل اور AP فار آل کے ذریعے یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے تمام سند یافتگان کالج اور طرز معاش کے لیے مستعد ہیں۔ آپ اس اہم کام میں شراکت دار ہیں، اور ہم ملکر یہ یقینی بنانا جاری رکھیں گے کہ آپ کے بچے اسکول میں ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔

میرا یہ بھی یقین ہے کہ اسکول صرف ایسی جگہوں سے زیادہ ہیں جہاں طلبا تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہماری برادریوں کے قلب ہیں۔ اور طلبا اور انکے خاندانوں کے لیے مواقع، اعانت اور بہبود کے لیے ایک وسیلہ ہیں۔ عمدہ تعلیم اگلی نسل کو باختیار بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔

میں آپ کے ساتھ اس سفر پر چلنے میں پُر جوش ہوں، اور آنے والے مہینوں میں آپ میں سے متعدد سے ملنے کا متمنی ہوں۔ آپ کے بچے نیویارک شہر کے مستقبل کے ڈاکٹرز، ٹیک قائدین، اساتذہ اور میٹر ہیں۔ میں ان میں سے ہر ایک کی مدد کرنے، حمایت کرنے اور حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔

مخلص،



Richard A. Carranza
چانسلر